

图森市和皮马县住房计划接受申请

包括第8节和城市拥有的住房计划


1月3日（星期二）上午8时开始接受申请

了解更多信息：waitlist.tucsonaz.gov

有问题吗？需要帮助吗？

TucsonWaitingList@tucsonaz.gov | (520) 791-5840

失聪或者听力障碍：听语障人士专线 7-1-1



EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

图森市住房和社区发展部致力于完全遵守所有相关非歧视和平等住房机会的州、联邦和地方法律。

图森市致力于其计划和服务的无障碍化。其他申请选项包括纸质申请、盲文、大号字体或为讲另一种语言的人士提供翻译。图森市已准备好应对所有需要援助或合理便利的请求。

"If you require a foreign language interpreter or materials in a language other than English or an ASL translator, please contact Eleanor Castillo, Language Access Coordinator at 520-791-4171".

"إذا كنت بحاجة إلى مترجم لغة أجنبية أو مواد بلغة أخرى غير الإنجليزية أو مترجم ASL، فيرجى الاتصال بالبنر كاستيلو Eleanor Castillo - منسق الوصول اللغوي - على الرقم 520-791-4171".

"如果您需要外語翻譯或非英語語言的材料或 ASL 翻譯，請致電 520-791-4171 聯繫語言訪問協調員 Eleanor Castillo".

"외국어 통역사 또는 영어 또는 ASL 번역기 이외의 언어로 된 자료가 필요한 경우 언어 액세스 코디네이터인 Eleanor Castillo에게 520-791-4171번으로 문의하세요."

"如果您需要外語翻譯或非英語語言的材料或 ASL 翻譯，請致電 520-791-4171 聯繫語言訪問協調員 Eleanor Castillo".

"Si usted necesita un intérprete de idioma extranjero o materiales en un idioma que no sea inglés o un traductor de ASL, por favor comuníquese con Eleanor Castillo, coordinadora de acceso lingüístico al 520-791-4171".

"Iwapo unahitaji mkalimani wa lugha ya kigeni au nyenzo katika lugha nyingine isipokuwa Kiingereza au mfasiri wa ASL, tafadhali wasiliana na Eleanor Castillo, Mratibu wa Ufikiaji Lugha kwa 520-791-4171".

"Nếu bạn yêu cầu thông dịch viên tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh hoặc phiên dịch ASL, vui lòng liên hệ Eleanor Castillo, Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ theo số 520-791-4171".